

## سٹی آف برامپٹن کی جانب سے پیش کی جانے والی میرج سروسز میں توسیع کی جا رہی ہے اور انہیں زیادہ قابل رسائی بنایا جا رہا ہے

برامپٹن، آن (4 نومبر 2019) – یکم دسمبر 2019 سے آغاز کرتے ہوئے سٹی آف برامپٹن اپنی میرج سروسز میں توسیع کر رہا ہے اور شادی سے متعلق خدمات میں اہم تبدیلیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔

### شادی کے لائسنس

یکم دسمبر 2019 سے آغاز کرتے ہوئے، میرج لائسنس کے لیے درخواست دینے کی شناختی شرائط میں درج ذیل تبدیلیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں:

1. کنیڈا کی شہریت کا کارڈ اور لینڈڈ امیگرینٹ ڈاکومنٹ کو شناخت کی بنیادی دستاویزات کے طور پر قبول کیا جائے گا جبکہ بنیادی نوعیت کی دیگر دستاویزات بھی فراہم کرنا ہوں گی۔
  2. فرینچ کینیڈین جاری کردہ سرکاری ID دستاویز اور طلاق کے سرٹیفیکیٹس کو انگریزی ترجمے کے بغیر ہی قبول کیا جائے گا۔
  3. فرانسیسی زبان کی دیگر کسی بھی دستاویز کو مکمل انگریزی ترجمے کے بغیر قبول نہیں کیا جائے گا۔
- رجسٹرار جنرل کے احکامات کی روشنی میں اور پورے صوبے میں رائج میونسپلٹی طریقہ کار کے مطابق، پرووینشل ہیلتھ کارڈز اور SIN کارڈز کو میرج لائسنس کی درخواستوں کے ساتھ شناختی دستاویز کے طور پر قبول نہیں کیا جائے گا۔

2019 میں آج کے دن تک سٹی نے 2,852 میرج لائسنس جاری کیے ہیں اور مئی تا اگست کے مصروف ترین مہینوں کے دوران روزانہ کی بنیاد پر 15 میرج لائسنس جاری کیے جاتے رہے ہیں۔ ان تبدیلیوں پر عمل درآمد ہونے کے بعد سٹی کی میرج سروسز ارد گرد کی دیگر میونسپلٹیوں کے مطابق ہو جائیں گی اور اس کا طریقہ کار ہمارے درخواست دہندگان کے لیے مزید قابل رسائی اور آسان بن جائے گا۔ یہ تبدیلیاں رجسٹرار جنرل کے دفتر کی جانب سے متعین کردہ صوبائی سطح کی شرائط پر بھی پورا اترتی ہیں۔

شناختی دستاویزات کی تفصیلی فہرست کے بارے میں جاننے اور مزید معلومات کے لیے ہماری [میرج لائسنسز ویب سائٹ](#) ملاحظہ کریں۔

### سیمپل سوک ویڈنگ سیرمنی: نئی – بروز منگل کی تقریبات!

جنوری 2020 سے شروع ہونے کے بعد ایسے جوڑے جو سادہ قسم کی غیر مذہبی شادی کے خواہشمند ہوں وہ شادی کی تقریبات کے لیے برامپٹن سٹی ہال، 2 ویلنگٹن اسٹریٹ ویسٹ میں منگل یا جمعرات کے دن کی ایک سیمپل سوک سیرمنی بک کر سکتے ہیں تاہم، سیمپل سوک سیرمنی جس میں چھ تک لوگ (بشمول دو گواہان) شرکت کر سکتے ہیں، کے لیے پیشگی بکنگ کرانا بھی لازمی ہو گا۔

سیمپل سوک سیرمنی کے بارے میں مزید معلومات کے لیے [ہماری ویب سائٹ](#) ملاحظہ کریں۔

30--

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)